



## سوال

(08) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ماکان و مایکون تھا یا نہیں؟

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ماکان و مایکون تھا یا نہیں؟ حالانکہ ایک روایت میں آتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رايت ربي عز وجل فی احسن صورۃ قال فیم یتختم الاعلی قلت انت اعلم فوضع کفہ بین لبتی فوجدت بردہا ما بین شفتینی فعلمت ما فی السموات والارض (الحديث مشکوٰۃ جلد 1 ص ۶۹-۷۰)

اس حدیث سے صریح ظاہر ہے۔ کہ آپ کو علم ماکان و مایکون تھا۔ اور آپ عالم غیب السموات والارض تھے

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

آپ کو علم ماکان و مایکون نہیں۔ اور حدیث فیم یتختم الاعلی سے صرف آسمان و زمین میں موجود اشیاء کا علم کلی معلوم ہوتا ہے۔ جو ہو چکی ہیں یا آئندہ ہونے والی ہے۔ ان کا علم ثابت نہیں ہوتا۔ اور اس کی موید بخاری کی حدیث کوثر بھی ہے۔ جو جواب نمبر ۵ میں گزر چکی ہے اور آیات و واقعات اور دیگر احادیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ کہ آپ کو بعض اشیاء کا علم ہے نہ کہ خدا کی طرح کل اشیاء کا۔ چنانچہ چند امثلہ جواب نمبر ۱ میں گزر چکی ہیں۔ (فتاویٰ روپڑی جلد اول ص ۲۲۰، ۲۲۱)

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

## فتاویٰ علمائے حدیث

جلد 10 ص 24

محدث فتویٰ